



Jubilee
LIFE INSURANCE

**JUBILEE UJALA
INSURANCE PLAN**



Bank Alfalah
The Way Forward

True contentment is seeing your loved ones happy and protected. While life may be full of ups and downs that seem unavoidable, the ability to secure your family from financial distress in the future is definitely a smart option.

The ‘Jubilee Ujala Insurance Plan’, a unit linked endowment plan which is a perfect step forward to achieve this assuredness in your life by benefiting from optimized returns on savings and investments. This plan will offer you the opportunity to invest your money wisely today and hopefully give your kin a brighter tomorrow.

Key Benefits

- Select any of the additional optional benefits to enhance your protection.
- Facility to withdraw the accumulated cash value of your funds either partially or fully.
- Top-up your investments with extra savings that you may have.
- An option to cope with inflation by increasing your premium.
- Long term financial security for you and your family.
- **Policyholder can cancel the policy within 14 days from the receipt of policy documents.**

How can I avail Jubilee Roshni Education Plan?

There are 3 simple steps that you need to follow:

Step 1	Decide the amount of Premium you would make. You can pay premium Yearly, Half-Yearly, Quarterly or Monthly.
Step 2	Choose the best coverage for your needs from the given options.
Step 3	Select any of the optional insurance benefits to enhance the plan.

Am I eligible for Jubilee Ujala Insurance Plan?

If you are 18 to 65 years old, you are eligible to avail the Jubilee Ujala Insurance Plan.

What is the available term range?

The available term range is 10 to 30 years subject to maturity at 75 years of age.

What protection does Jubilee Ujala Insurance Plan offer?

Jubilee Ujala Insurance Plan is especially designed for individuals who seek better and optimized returns on their saving/investment along with life insurance benefits.

- **Death Benefit**
In case of unfortunate death, your nominated beneficiaries will receive the sum assured or the accumulated cash value of your funds (whichever is higher).

Sum assured is the guaranteed minimum amount payable on death. Sum assured is determined by multiplying the annual basic premium with a Cover Multiple. The range of Cover Multiples offered under this Plan is 5 - 25; hence your Sum Assured could be 5 to 25 times of annualised basic premium.

For example, if your annual basic premium is PKR 300,000 and you have selected a Cover Multiple of 5, your total sum assured would be $\text{PKR } 300,000 \times 5 = \text{PKR } 1,500,000^*$

*The range of cover multiples available to the policyholder varies with the age at entry of the life assured and underwriting outcome.
- **Maturity Benefit**
At the end of the term of the plan, the policyholder will receive the cash value accumulated during the term of the plan.

Note: To help you make a selection according to your savings and insurance needs, you may contact our representatives at your nearest Bank Alfalah branch.

Can I avail additional protection to enhance my insurance cover under Jubilee Ujala Insurance Plan?

Jubilee Ujala Insurance Plan is a flexible plan that lets you select from a variety of additional optional riders based on your needs, at a modest extra cost:

Accidental Death	An additional amount will be paid under this benefit in case death occurs due to an accident.
Accidental Death or Dismemberment	An additional amount will be paid under this benefit in case death or dismemberment occurs due to an accident.
Critical Illness	The benefit payable on death is given in advance in case you are diagnosed as having one of the specified critical illnesses.
Permanent Total Disability	The benefit payable on death is given in advance in case of permanent total disability.
Waiver of Premium	Your premium from the next premium due date will be paid by Jubilee Life, should you suffer an illness or disability, and are not able to follow your own occupation or any other occupation suited to you by your knowledge, training or education for at least six months.
Family Income Benefit	To meet the recurring expense, an additional regular income will be paid until expiry of a defined period to your family in addition to other benefits, in case of death.
Jubilee Medipal*	<p>This benefit provides financial protection in case of illness or accident that leads to hospitalisation with coverage up to the annual limit of PKR 250,000 for in-patient expenses incurred by the life assured. Furthermore, the life assured can also select Medipal for his/her spouse.</p> <p>The policyholder will have the advantage of obtaining quality medical care services coupled with a private room at any of the approved hospitals without having to pay anything.</p> <p>For further details, please refer to the separate leaflet of Jubilee Medipal.</p>
Cancer Protection	This benefit provides coverage in case you are diagnosed with cancer so that you and your loved ones can be relieved from the imminent financial burden and focus solely on your recovery and health. The benefit amount will be paid to you depending on the stage of the cancer, that is, either Early Stage or Late Stage.

*Terms and Conditions Apply.

How much premium do I need to pay to avail Jubilee Ujala Insurance Plan?

The premium can be paid yearly, half-yearly, quarterly or monthly. Following is a breakdown of the minimum premium contributions that can be made:

Frequency	Minimum Amount
Yearly	Rs. 250,000
Half Yearly	Rs. 125,000
Quarterly	Rs. 62,500
Monthly	Rs. 20,834

How will my premiums be allocated?

Your premiums made towards J Jubilee Ujala Insurance Plan are allocated as follows:

Policy Year	Allocation Percentage
Year 1	62.5%
Year 2	80%
Year 3	90%
Year 4 & Onwards	100%

Ad-Hoc: 100%

Will there be any Bonus Allocation in this Plan?

Under Jubilee Ujala Insurance Plan, from 6th year & onwards in excess of 100%, Jubilee Life Insurance will give its customers a Bonus allocation to the unit account. This will be provided according to the table below:

Policy Year	Bonus Allocation %
6th Year & Onwards	3%

How will my premiums towards Jubilee Ujala Insurance Plan be managed by Jubilee Life?

Jubilee Life offers you the flexibility to direct your premiums in part or whole to any of the fund(s) shown below:

Jubilee Life Balanced Fund	A fund designed to generate competitive long-term returns with balanced allocation in Equity, Government securities and other wide range of allowable asset classes. It is classified as fund having medium risk profile.
Jubilee Life Government Securities Fund	A fund designed to provide sustainable returns over long term with exposure in Government securities, Government securities related instruments and bank deposits. It is classified as fund having low risk profile.

Your Premiums, by default, will be allocated to **Jubilee Life Government Securities Fund** of the Jubilee Life Insurance. It offers competitive returns with minimum risk, over medium to long-term, by investing in a diversified portfolio of different money market & government debt securities and does not have any investment in equity securities.

However, you have the option to invest in any fund of your choice other than the default investment fund by signing the declaration form.

Your invested premiums are managed by expert investment managers and backed by premium financial securities to ensure optimized returns with manageable risk exposure.

Your premiums will earn investment returns during the term of the plan. At the end of the chosen term, you will receive your accumulated cash value as a lump sum.

Note: The past performance of these funds is not necessarily indicative of the future performance of any of these funds.

Unit prices of Jubilee Life's Funds are published in leading daily newspapers regularly and on Jubilee Life website: www.jubileelife.com

Does Jubilee Ujala Insurance Plan allow me to withdraw the accumulated value of my fund(s)?

Yes, under Jubilee Ujala Insurance Plan, you have the facility to withdraw the cash value of your fund(s) (either fully or partially) provided you have paid premiums in full for two years at the end of which you have the following options:

- **Partial Withdrawal** - If you need to withdraw your cash value for meeting some emergency needs, but do not want to surrender the policy, you can withdraw any amount (subject to minimum withdrawal amount prescribed by Jubilee Life Insurance) provided that the residual cash value in your unit account after partial surrender is greater than or equal to PKR 250,000*. A partial surrender charge of 5% will be applied to cash value of units during the first two policy years. No partial surrender charge will be applicable after the first two policy years.

Despite partial withdrawals, you will continue to receive life insurance cover although your sum assured will be reduced by the amount of partial withdrawals.

- **Full Policy Surrender** - You can surrender your policy at any point of time. However, surrender in first two policy years will be subject to 5% of surrender charges of the accumulated cash value. No surrender charge will be applicable after the first two policy years.

If you continue to invest in the Jubilee Ujala Insurance Plan over a prolonged period of time, you can benefit with higher Cash Values in later years. At the time of surrender, you will be paid the accumulated cash value of your fund. However, surrender in early policy years may result in lower cash values.

Pricing Methodology

Jubilee Life follows forward unit pricing methodology. It is worked out by dividing the total value of investments in the fund by the number of active units in the fund as of pricing date.

Does this plan help me in coping with inflation?

In order to combat inflation, you have an option to select indexation in your policy. Selection of this option will increase your premium automatically each year by a limit specified by the Company. However, you retain the right to cancel the indexation if you wish.

Are there other built-in features of Jubilee Ujala Insurance Plan?

- **Automatic Cover Maintenance** - In case you cannot meet your premium payments after the first policy year, you will still be eligible for the life insurance cover, as long as your Plan's cash value is sufficient to pay for charges made against your policy.
- **Top-Up Premium (Ad-hoc Premium)** - To enhance your Cash Value at any given time in your policy, you can top up your unit account(s) under this plan by making ad-hoc premium payments. These premiums would be invested in the Unit Account(s) at the then prevailing offer price(s).

Free Look Period

Jubilee Life offers a free look period of 14 days during which you can review your policy terms and conditions and may like to cancel the policy if needed. Your premium will be refunded if the written request for cancellation is received within 14 days from the receipt of policy documents. Please note that Jubilee Life reserves the right to deduct the expenses incurred on medical examination (if any).

What are the charges of Jubilee Ujala Insurance Plan?

In addition to reduced allocations in initial years, the following charges* are applicable on the plan:

- An investment management charge of 1.5% p.a of fund value
- An administration fee of Rs. 270 per month
- 5% bid-offer spread
- Applicable mortality charges
- Fund Switching Charges of PKR 500 after first four free switches in a year
- A 5% Full / Partial Surrender Charge applicable during the first two policy years. No charges will be applicable after the first two policy years
- Premium Allocation Charge : Premium allocation charge for the year is calculated as hundred percent of the premium received less percentage of the allocated premium for the year.

*All charges are reviewable by the company

Disclaimer

- This product is underwritten by Jubilee Life Insurance Limited. It is not guaranteed or insured by Bank Alfalah Limited or its affiliates, and is not a product of the Bank Alfalah Limited.
- This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).
- The past performance of Jubilee Life funds is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds, and neither Jubilee Life nor Bank Alfalah Limited will incur any liability for the same.
- Our sales representative will provide a personalised illustration of benefits to you. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various Terms and Conditions.
- Please refer to the Policy Documents for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Supplementary benefits may be available if the life assured is aged 55 years or less, nearest birthday at the time of issuance.
- Bank Alfalah Limited is acting as a distributor on behalf of Jubilee Life Insurance, and is not and shall not be

held responsible in any manner whatsoever to any person, including, but not limited to, the insured customer(s), beneficiary(ies) or any third party.

- Jubilee Life Insurance is the underwriter and provider of this Insurance Policy and shall be responsible for policy servicing and lodgment, processing, & settlement of claims to the insured customer(s) or beneficiary(ies).
- The investment risk shall be borne by the Policy Holder and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures. A declaration must be signed by the policyholder if he/she opts to invest in a fund other than the default fund.
- Please refer to company web site for target asset mix of the underlying fund:
(<https://www.jubileelife.com/funds2/fund-manager-reports/>)

Contact Details

In case of complaint or further details, please contact:

Jubilee Life Insurance Company Limited

Head Office: 74/1-A, Lalazaar, M.T.Khan Road,

Karachi - 74000, Pakistan

Tel: (021) 32120201, 35205094, Fax: (021) 35610959

Email: info@jubileelife.com, complaints@jubileelife.com

UAN: (021) 111-111-554 WhatsApp: 021 111 111 554

Website: www.jubileelife.com

Bank Alfalah

UAN: 021 111 225 111

Website: www.bankalfalah.com

Jubilee
LIFE INSURANCE



Bank Alfalah
The Way Forward

جوبلی جالا
انشورنس پلان

زندگی کی اصل خوشی اور اطمینان اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنے پیاروں کو خوش اور محفوظ دیکھتے ہیں۔ زندگی میں کئی ایسے نشیب و فراز آ سکتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مستقبل میں اپنی فیملی کو مالی پریشانی سے محفوظ رکھنا یقیناً ایک اسارٹ آپشن ہے۔

’جوبلی اُجالا انشورنس پلان‘ جو کہ ایک یونٹ لکڈ اینڈ وینٹ پلان ہے، ایک مکمل پلان ہے جس میں آپ اپنی زندگی میں سیونگنز اور سرمایہ کاری پر بہتر منافع کے ذریعے زندگی کا یہ تحفظ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پلان آج آپ کو غفلت دی سے سرمایہ کاری کرنے کا موقع فراہم کرے گا اور آپ کے پیاروں کو ایک روشن مستقبل دے گا۔

پراڈکٹ کی خصوصیات

- اپنے تحفظ کو بڑھانے کے لیے کسی بھی اضافی اختیاری فوائد کا انتخاب
- اپنے فنڈز کی جمع شدہ کیش ویلیو جزوی یا مکمل طور پر نکلوانے کی سہولت
- اضافی بچت کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کو Top-up کرنا
- اپنی پریمیم میں اضافے کے ذریعے افراط زر پر قابو پانے کا اختیار
- پالیسی ہولڈر پالیسی دستاویزات کی وصولی کے 14 دن کے اندر پالیسی کو منسوخ کر داسکتا ہے۔

کیا میں جوبلی اُجالا انشورنس پلان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟

آپ کو درج ذیل تین مراحل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے:

مرحلہ 1	پریمیم کی رقم کا فیصلہ کریں جو آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ آپ پنڈر بمکیم سالانہ، ششماہی، سہ ماہی یا پلانٹینا پر کر سکتے ہیں۔
مرحلہ 2	دیئے گئے آپشنز میں سے اپنی ضروریات کے لیے بہترین تحفظ کا انتخاب کریں۔
مرحلہ 3	منصوبے میں اضافے کے لیے اختیاری فولڈ میں سے کسی کا بھی انتخاب کریں۔

کیا میں جوبلی اُجالا انشورنس پلان کیلئے اہل ہوں؟

اگر آپ 18-65 سال کے ہیں تو آپ اُجالا انشورنس پلان کیلئے اہل ہیں۔

دستیاب مدت کی ریج کیا ہے؟

دستیاب مدت کی ریج 10-30 سال ہے جو 75 سال کی عمر پر میچورٹی سے مشروط ہے۔

جوبلی اُجالا انشورنس پلان کو کسی حفاظت فراہم کرتا ہے؟

جوبلی روشنی ایجوکیشن پلان خاص طور پر آپ کے بچوں کی تعلیم اور کیریئر کے سگ میل کو عبور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب کہ اس امر کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ منصوبے کی مدت کے دوران بیمہ دار کے بے وقت انتقال کی صورت میں خاندان کو یہ مراحل طے کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔

وفات کی صورت میں تحفظ

آپ کی وفات کی صورت میں آپ کے نامزد کردہ بینیشیئرز کو بیمہ کی رقم یا آپ کے فنڈز کی جمع کردہ کیش ویلیو ملے گی (جو بھی زیادہ ہو)۔

بیمہ کی رقم یقینی ہے جو وفات پر قابل ادا ہے۔ بیمہ کی رقم کا حساب سالانہ بیسک پریمیم کو کورٹھلی بل سے ضرب دے کر لگایا جاتا ہے۔ اس پلان کے تحت کورٹھلی بل کی ریج 5-25 ہے۔ لہذا بیمہ کی رقم سالانہ بیسک پریمیم 5-25 کا تناسب ہو سکتی ہے۔

مثال کے طور پر اگر آپ کا سالانہ بیسک پریمیم 300,000 روپے ہو اور آپ 5 کورم: لٹی پلان کا انتخاب لکھیں تو آپ کے بیمہ کی رقم $300,000 \times 5 = 1,500,000$ روپے ہوگی۔

* پالیسی ہولڈر کو دستیاب کورٹھلی بلز کی ریج بیمہ زندگی لینے کی عمر اور انڈر رائٹنگ آؤٹ کم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔

پلان کی مدت ختم ہونے پر پالیسی ہولڈر کو پلان کی مدت کے دوران جمع شدہ کیش ویلے بٹلنگ۔

نوٹ: اپنی پخت اور انشورنس ضروریات کے مطابق مطلوبہ کوریج کا انتخاب کے بارے میں سمجھنے کے لیے نیک افکار جی آر ٹی برانچ میں ہمارے نمائندوں سے رابطہ کریں۔

کیا میں جو بلی آجالہ انشورنس پلان کے تحت میرے انشورنس کوریج میں مزید اضافی تحفظ حاصل کر سکتا ہوں؟

جو بلی آجالہ انشورنس پلان ایک خاص پلان ہے جو آپ کو آپ کی ضروریات کے مطابق وریک جدید اضافی قیمت پر اضافی اختیار انڈر زکی ورائٹی میں سے اضافی تحفظ منتخب کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

حادثاتی وفات	اس تحفظ کے تحت حادثے کی وجہ سے ہونے والی وفات کی صورت میں ایک اضافی رقم ادا کی جائے گی۔
حادثاتی موت یا معذوری	اس تحفظ کے تحت حادثے کی وجہ سے ہونے والی وفات یا غیر نمٹنے کی صورت میں ایک اضافی رقم ادا کی جائے گی۔
تشویش ناک بیماری	وفات کی صورت میں قابل قدر قیمت کی رقم ادا کی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی مخصوص میں سے ایک تشویش ناک بیماری تشخیص کی جاتی ہے۔
مستقل مکمل معذوری	مستقل مکمل معذوری کی صورت میں وفات پر قابل قدر قیمت کی رقم ادا کی جاتی ہے۔
پریمیئم کی چھوٹ	اگر آپ کی بیماری یا معذوری کی وجہ سے اپنی ملازمت کو کم سے کم چھ ماہ جاری نہیں رہ سکتے یا کوئی دوسرا کام جو آپ کی قابلیت، تربیت یا تعلیم کے لحاظ سے آپ کیلئے مناسب ہو وہ بھی کم از کم چھ ماہ تک نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں اگلے پریمیئم کی آخری تاریخ سے آپ کا پریمیئم جو بلی آائف ادا کرے گا۔
فیملی ٹکم	باد بآ آنے والے اخراجات کو پورا کرنے کیلئے ایک اضافی باقاعدہ آمدنی کی فیملی ہلا کی جائے گی جب تک کہ مدت ختم نہیں ہو جاتی۔ وفات کی صورت میں یہ تحفظ دیگر تحفظات کے علاوہ ہے۔
جو بلی میڈیل *	یہ انڈر بھاری بھالی صورت میں مالی تحفظ فراہم کرتا ہے جو اسپتال میں داخلے کی صورت میں ان پیشینہ اخراجات کیلئے سالانہ حد 250,000 روپے تک تحفظ دیتا ہے۔ مزید یہ کہ بیہ شدہ شخص اپنے شریک حیات کیلئے بھی میڈیل کا انتخاب کر سکتا ہے۔
	یہ انڈر بھاری بھالی صورت میں مالی تحفظ فراہم کرتا ہے جو اسپتال میں داخلے کی صورت میں ان پیشینہ اخراجات کیلئے سالانہ حد 250,000 روپے تک تحفظ دیتا ہے۔ مزید یہ کہ بیہ شدہ شخص اپنے شریک حیات کیلئے بھی میڈیل کا انتخاب کر سکتا ہے۔
	پالیسی ہولڈر کو یہ فائدہ حاصل ہو گا کہ وہ معیاری فیملی ہلا کو حاصل کرے گا اور ساتھ ہی سے بغیر کوئی ادائیگی کے کسی بھی منظور کردہ اسپتال میں پرائیویٹ وصال حاصل ہو گا۔
	مزید تفصیلات کیلئے براہ مہربانی جو بلی میڈیل کے علیحدہ لفٹ ایٹ کا مطالعہ کریں۔
کینسر کوریج یا کینسری تحفظ	اگر آپ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو یہ تحفظ آپ کو آپ کی فیملی کو کوریج فراہم کرتا ہے تاکہ آپ مالیاتی بوجھ کی فکر سے آزاد ہو کر بیماری کے علاج اور صحت پر توجہ دے سکیں۔ یہ کہ رقم ادا کی جائے گی کینسر کی تشخیص کے بعد، کہ وہ دلی تشخیص ہے یا خیر تشخیص ہے۔

جوبلی امالا انشورس پلان حاصل کرنے کیلئے مجھے کتنے پیمہ ہوا کرنا ہوگا؟

آپ اپنے پیمہ سالانہ ششماہی، سہ ماہی یا ہالہ بھی واکر سکتے ہیں۔ کم سے کم پیمہ ہل کے مطابق واکر یا کاسا ہے۔

فریکوئنسی	کم از کم رقم (روپے)
سالانہ	250,000
ششماہی	125,000
سہ ماہی	62,500
ہالہ	20,834

میرے پیمہ کو کس طرح کیلو کیٹ کیا جائے؟

آپ کے پیمہ کو جوبلی امالا انشورس پلان میں مندرجہ ذیل طریقے سے کیلو کیٹ کیا جائے گا:

پالیسی سال	پونٹ اکاؤنٹ میں پیمہ ایلو کیٹن کی شرح
پہلا	62.5%
دوسرا	80%
تیسرا	90%
چوتھا و اس سے زائد	100%

ایڈ ہاک: 100%

کیا اس پلان میں کوئی پونس ایلو کیٹن ہے؟

جوبلی امالا انشورس پلان کے تحت 6 ویں سال سے و اس کے بعد 100 فیصد سے زیادہ جوبلی لائف انشورس پنے حصار فین کو پونٹ اکاؤنٹ میں پونس مختص کرے گی۔ یہ نیچے دیے گئے جدول کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔

پالیسی سال	پونس ایلو کیٹن
6 سال و اس سے زائد	3%

ان اضافی پونس کی تقسیم بنیادی پونس کی تقسیم کے علاوہ ہوگی۔

جوبلی امالا انشورس پلان میں میرے پیمہ کو جوبلی لائف کیسے منظم کرے گی؟

جوبلی لائف آپ کو یہ سہولت فراہم کرے گا کہ آپ اپنے پیمہ کو جوبلی لائف میں مندرجہ ذیل فنڈز میں تقسیم کر سکتے ہیں:

جوبلی لائف بیلنسڈ فنڈز	یہ ایک ایسا فنڈ ہے جسے ایکویٹیٹ، گورنمنٹ، سکیورٹیز اور قابل اجازت اثاثوں کی دیگر وسیع رینج میں متوازن مختص کے ساتھ مساقتی طویل مدتی منافع پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی درمیانے درجے کے رسک پروفائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔
جوبلی لائف گورنمنٹ سکیورٹیز فنڈز	یہ ایک ایسا فنڈ ہے جسے گورنمنٹ سکیورٹیز، گورنمنٹ سکیورٹیز سے متعلق آلات اور پبلک ڈیپازٹس میں سرمایہ کاری کے ساتھ طویل مدتی پائیدار منافع کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی کم رسک پروفائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔

آپ کے یکم، بطور ذیافت، جو جلی لائف انشورنس کے جلی لائف گورنمنٹ سیوریٹس شخص کے لیے جائیں گے۔ یہ مختلف مینی لکے سروسز کی ضرورت کے منتویں پورٹ فویو میں سرمایہ کاری کر کے کم سے کم خطرے کے ساتھ سرمایہ مدت سے طویل مدتی تک مسابقتی منافع پیش کرتے ہیں اس میں ایکویٹی سیوریٹس میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے تاہم، آپ کے پاس اعلیٰ فارم پر منتظر کر کے ذیافت انوینٹنٹ کے علاوہ اپنی پسند کی بھی فنڈ میں سرمایہ کاری کر سکتا ہیں۔

آپ کے سرمایہ کاری شدہ یکم کا نظام ہر انوینٹنٹ مینجر کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس کو تقویت پر یکم فنانسل سیوریٹس سے ملتی ہے تاکہ بہترین منافع کو قابل برداشت خطرے کے ساتھ تقویت بنی بنایا جاسکے۔

آپ کے پر یکم منصوبے کی مدت کے دوران سرمایہ کاری پر منافع حاصل کریں گے۔ منتخب شدہ مدت کے اختتام پر آپ کو اپنی جمع شدہ نقد قیمت یک مشت میں مل جائے گی۔
نوٹ: ان فنڈز کی کارکردگی اپنی پہلی فنڈز میں سے کسی کی مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں ہے۔

جو جلی لائف کے فنڈز کی پورٹ کی قیمتیں تمام معروف روزناموں اور جو جلی لائف کی ویب سائٹ www.jubileelife.com پر شائع ہوتی ہیں۔

کیا جو جلی لائف انشورنس پلان کے تحت میں اپنے فنڈ سے مجموعی رقم نکال سکتا ہوں؟

جی ہاں، جو جلی لائف انشورنس پلان کے تحت آپ اپنے فنڈ سے جزوی یا مکمل رقم نکال سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مندرجہ ذیل آپشنز موجود ہیں:

جزوی رقم نکالنا

آپ کی شہریدار صورت کے تحت رقم نکالنا چاہتے ہیں لیکن پالیسی سے مسترد نہیں ہونا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو رقم نکال سکتے ہیں (نکالی گئی کم سے کم رقم سے مشروط ہے جو جو جلی لائف انشورنس کی طرف سے تیار کیا گیا ہو)۔ شرط یہ ہے کہ رقم نکالنے کے بعد آپ کی پالیسی کی باقی ماندہ رقم 250,000 * روپے سے زیادہ یا سادی ہو۔ پالیسی کے پبلڈ و سالوں کے بعد جزوی مسترداری کے 5% چارجز کیش ویلیو پر لاگو ہوں گے۔ پالیسی کے پبلڈ و سالوں کے بعد جزوی مسترداری کے یہ چارجز قابل اطلاق نہیں ہوں گے۔

جزوی رقم نکالنے کے باوجود آپ کو لائف کوریج ملے گی۔ اگرچہ جزوی رقم نکالنے کے بعد آپ کی بیمہ شدہ رقم ہو جائے گی۔

* باقی ماندہ ویلیو تبدیل سے مشروط ہے اور جو جلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے اس پر نظر ثانی کی جاسکتی ہے۔

پالیسی سے مکمل مسترداری

آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ پالیسی سے کسی بھی وقت مسترد ہوسکتے ہیں تاہم پالیسی کے پبلڈ و سالوں کے دوران 5% چارجز کیش ویلیو پر لاگو ہوں گے۔ پالیسی کے پبلڈ و سالوں کے بعد مسترداری کے یہ چارجز قابل اطلاق نہیں ہوں گے۔
اگر آپ جو جلی لائف انشورنس پلان میں لمبے عرصے تک سرمایہ کاری کرتے رہیں گے تو انے والے سالوں میں بلند کیش ویلیو حاصل کر سکیں گے۔ مستردار ہونے کی صورت میں، آپ کے فنڈ کی مکمل ادائیگی کی جائے گی۔ شروع کے سالوں میں مسترداری کرنے پر کیش ویلیو کم مل سکتی ہے۔

قیمتوں کا تعین کرنے کا طریقہ کار

جو جلی لائف فارورڈ ڈیوٹ کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار کی پیروی کرتی ہے۔ یہ فنڈ میں سرمایہ کاری کی کل قیمت کو قیمتوں کے تعین کے علاوہ کے مطابق فنڈ میں فیل کائیوں کے تعین کے تقسیم کے طریقہ کار کے تحت کیا جاتا ہے۔

کیا پلان مجھے مزید گائی سے مقابلہ کرنے میں مدد کرے گا؟

مزید گائی سے مقابلہ کیلئے آپ کو پالیسی میں ڈیولپمنٹ کا انتخاب کرنا اختیار حاصل ہے اس آپشن کا انتخاب کرنے آپ کو یکم پر ہجے گا جس کی وجہ سے کمپنی کی طرف سے تجویز کردہ حد تک ہر سال آپ کی بیمہ کی رقم بھی بڑھے گی تاہم اگر آپ چاہیں تو ڈیولپمنٹ کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔

کیا جوہلی اجالا انشورنس پلان میں کوئی دیگر خود ساختہ خصوصیات موجود ہیں؟

آلو میٹک کوور پیڈ ٹینٹس

اگر آپ پالیسی کے ایک سال کے بعد اپنے پیمیم کی وائیٹنگ نہیں کر پاتے ہیں تو بھی آپ لانف انشورنس کیلئے مل ہوں گے جب تک کہ آپ کے پلان کی کیش ویلیو پالیسی چار جز کی وائیٹنگ کیلئے کافی ہے۔

ٹاپ اپ پرمیمیم (ایڈ ہاک پرمیمیم):

کسی بھی سال جب آپ اپنے پلان میں اضافی کٹری ہو شوز ادا کرنا چاہتے ہیں، اجالا انشورنس پلان آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے موجودہ پرمیمیم کٹری ہو شوز میں یہ اضافی کٹری ہو شوز شامل کر دیں، اس طرح آپ اپنی کیش ویلیو بڑھا سکتے ہیں۔

مفت تجرباتی دورانیہ

جوہلی لانف 14 دنوں کے فری لکد کا عرصہ مفت فراہم کرتی ہے جس کے دوران آپ اپنی پالیسی کی شرائط و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ضرورت ہو تو پالیسی منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پالیسی دستاویزات کی رسید کے 14 دن کے اندر تحریری درخواست موصول ہو جاتی ہے تو آپ کا پرمیمیم واپس کر دیا جائے گا۔

کیا جوہلی اجالا انشورنس پلان کے کوئی چار جز ہیں؟

ابتدائی سالوں میں کم کردہ ویلیو کیشن میں اضافے کے ساتھ پلان پر مندرجہ ذیل چار جز * قابل اطلاق ہیں:

فنڈ ویلیو کا 1.5% سالانہ انوسٹمنٹ مینیجمنٹ چارج

270 روپے ماہانہ انتظامی فیس

5% ہڈ آف اسپرینڈ

ایس ای سی پی کے مطابق اموات کے چار جز

سال میں چار مفت سوئچز کے بعد 500 روپے فنڈ سوئچنگ چار جز

پالیسی کے پہلے دو سال کے دوران 5% جزوی دستبرداری لاگو۔ پالیسی کے پہلے دو سال کے بعد کوئی چار جز لاگو نہیں۔

رائڈر چار جز، آپ کے منتخب کردہ رائڈرز پر مبنی ہیں۔

پرمیمیم ایلوکیشن چارج: سالانہ پرمیمیم مختص کرنے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ پرمیمیم کا سو فیصد سال کے لیے مختص کر دہ پرمیمیم کا کم فیصد وصول کرتا ہے۔

* تمام تبدیلیاں جوہلی لانف انشورنس کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے قابل جائزہ ہیں۔

انتباہ

• یہ پراڈکٹ جوہلی لانف کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ بینک الفلاح یا اس سے ملحقہ ادارہ اس سے متعلقہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہو گا اور نہ ہی یہ پراڈکٹ بینک الفلاح کی جان بے پیش کی جا رہی ہے۔

• یہ ایک لانف انشورنس پراڈکٹ ہے جس کے دو الگ الگ عناصر ہیں، یعنی انشورنس پرمیمیم اور انوسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کا جز ویونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی سے منسلک ہے۔

• جوہلی لانف کے فنڈز کی ماضی کی کارکردگی ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کی کارکردگی کی نشاندہی کرے۔ کوئی بھی کیٹیجیشن گوئی ضروری نہیں کہ فنڈز کے مستقبل کی کارکردگی کا ظاہر کرے۔ اس سلسلے میں نہ تو جوہلی لانف اور نہ ہی بینک الفلاح پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔

• ذاتی اسٹریٹیشن ہمارے سبز کے نمائندے کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کی تفصیلات جاننے کے لیے اسٹریٹیشن میں دینے لگے نوٹس کا مطالعہ کریں۔

• براہ مہربانی دیگر شرائط و ضوابط کے تفصیلی جائزے کے لیے پالیسی دستاویزات کا مطالعہ کریں۔

• پالیسی حاصل کرتے وقت بیمہ دار کی عمر 55 سال ہو یا قریب ترین تاریخ پیدائش اس کے قریب ہو تو ضمنی فوائد دیئے جاسکتے ہیں۔

- بینک الفلاح، جوہلی لائف کے لیے تقسیم کاری کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور کسی بھی طور پر کسی شخص، بیمہ شدہ فرد یا وارث کو جوابدہ نہیں۔
- جوہلی لائف انشورنس اس بیمہ پالیسی کا انڈر رائٹر اور فراہم کنندہ ہے اور پالیسی کی خدمت، لاجسٹکس، پراسسنگ اور انشورڈ کسٹمر اور سٹیشنریز کے کلیم کے تصفیہ کا ذمہ دار ہے۔
- سرمایہ کاری کا خطرہ، پالیسی ہولڈر برداشت کرے گا اور اصل سرینڈر ویلیو اور میچورٹی ویلیو پر ویکلنڈ ویلیو سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پالیسی ہولڈر پہلے سے طے شدہ فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے اعلامیہ پر دستخط کرنا ضروری ہے۔
- براہ کرم بنیادی فنڈز کے مئانگٹ ایسٹمس کی معلومات کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں:
(<https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/>)

رابطہ کی تفصیلات:

شکایات یا مزید تفصیلات کی صورت میں براہ کرم رابطہ کریں۔

جوہلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: 74/1-A- لالہ زار ایم ٹی خان روڈ، کراچی-74000، پاکستان

فون: 35205094، 32120201 (021)، فیکس: 35610959 (021)

ای میل: complaints@jubileelife.com، info@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileelife.com

یو ایس این: 111-111-554 (021)، وائٹس ایپ: 111-111-554 (021)

بینک الفلاح

یو ایس این: 111 225 111 021

ویب سائٹ: www.bankalfalah.com